



عصمت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں حکمت خداوندی

مصنف

مناظر اہلسنت علامہ عبدالستار ہمدانی ”مصرف“ برکاتی نوری

ناشر

جمعیت اشاعت اہلسنت


نور مسجد کاغذی بازار، بیٹھادر کراچی - 74000

فون: 2439799

فہرست عنوانات

”عصمت عائشہ میں حکمت خداوندی“

صفحہ	عنوانات
4	• سبب تالیف
9	• حدیث اٹک
9	• اصل واقعہ کیا تھا؟
12	• حضور اقدس ﷺ نے اشارۃ الزام کی تردید فرمائی
16	• حضرت عائشہ کی برأت میں قرآنی آیات کا نزول
19	• منافقین زمانہ کے اعتراضات
22	• حضور اقدس ﷺ کو یقین کے درجہ میں اس معاملہ کا علم تھا
27	• عورت کے حقوق کی پاسداری
30	• برأت عائشہ میں تاخیر کی حکمت



نام کتاب	عصمت عائشہ میں حکمت خداوندی
مصنف	مناظر اہلسنت علامہ عبدالستار ہمدانی ”مصرف“
ضخامت	40 صفحات
تعداد	2000
سن اشاعت	۱۴۲۷ھ بمطابق 2006ء

پیش لفظ

صحابیات رضی اللہ عنہن کا بڑا مقام ہے پھر ان میں سے وہ جنہیں نبی ﷺ کی بیٹی ہونے کا شرف ملا جیسا کہ شرف حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما کو نصیب ہوا۔ اور وہ صحابیات جن کو رحمت عالم نبی آخر الزماں ﷺ کی زوجیت نصیب ہوئی بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ انہیں ازواج مطہرات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں امہات المؤمنین بنادیا چنانچہ ارشاد فرمایا: ﴿أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ ان میں سے یار غار صدیق اکبر کی لخت جگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مرتبہ ہے۔ کہ نبی ﷺ اپنی ازواج میں سب سے زیادہ محبت انہی سے فرماتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برأت اور ان کی شان میں قرآنی آیات نازل فرمائیں۔ اور تمام ازواج میں ہی نہیں بلکہ تمام صحابیات میں، تمام صحابیات میں ہی نہیں آج تک تمام عورتوں میں زیادہ علم رکھنے والی تھیں۔ زیر نظر رسالہ حضرت علامہ مولانا عبدالستار ہمدانی کی تصنیف ہے جو آپ نے ”عصمت عائشہ میں حکمت خداوندی“ کے نام سے تحریر فرمایا۔ اور یہ رسالہ ۱۴۲۲ھ-۲۰۰۳ء میں بھارت آفسیٹ پریس دہلی سے باہتمام کتب خانہ فاروقیہ ٹیپا محل، دہلی سے ایک ہزار کی تعداد میں شائع ہو چکا ہے اور جمعیت اشاعت اہلسنت، اس مفرد و مفید تحریر کو اپنے سلسلہ مفت اشاعت کی 144 ویں اشاعت کے طور پر شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

سبب تالیف

آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے عالی جناب رفیق بھائی پور بندری کا بوٹوانہ (افریقہ) سے فون آیا اور انہوں نے فون پر اثنائے گفتگو یہ بتایا کہ آج کل افریقہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے کچھ زیادہ ہی نازیبا کلمات کہے جا رہے ہیں، آپ کی پاکدامنی پر کیچڑا چھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ کی عصمت و عفت پر کلام کیا جاتا ہے۔ جب کہ اپنے ہندوستان میں بھی ایسی باتیں سنی جاتی رہیں اور بروقت اس کے کافی و شافی جوابات بھی علمائے اہل سنت کی جانب سے دئے جاتے رہے۔ مگر جب بات سرحد کو عبور کر جائے تو معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین ہو جاتا ہے۔

منافقین زمانہ تو ہر لمحہ نبی کو نبی ﷺ اور آپ سے منسوب شخصیات و اشیاء کی کچھ نہ کچھ تنقیص میں رہتے ہی ہیں۔ انہیں موقع ملنا چاہیے اور پھر بس زبان کھل باقی ہے، واقعات و حادثات کی حقیقت و اصلیت جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور نہ لوگوں کو جاننے دیتے ہیں۔ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ کے تعلق سے کیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ اگر کسی وہابی تبلیغی سے پوچھا جائے تو شاید ہی جواب ملے، کیونکہ ان کو صرف گستاخی کی ہی حد تک معلومات ہیں، اور اسی کی وہ نشر و اشاعت کرتے ہیں۔

اس ضمن میں آیات ربانی و احادیث نبوی و اقوال بزرگاں بے شمار ہیں جو اپنے اندر انتہائی جامعیت رکھتے ہیں اور ہر ذی عقل اس کو سمجھ سکتا ہے۔

بہر حال! اس تعلق سے جب مناظر اہل سنت، ماہر رضویات، علامہ عبدالستار ہمدانی صاحب مدظلہ العالی کو اطلاع ملی تو آپ بڑے تشویش مند اور متفکر تھے، چند ہی لمحوں کے بعد مجھ حقیر سے فرمایا کہ اگر اس موضوع پر مختصر سا ایک کتابچہ لکھ دیا جائے تو کیسا رہے گا تا کہ سادہ لوح عام مسلمان اس کو پڑھ کر اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کر سکیں حضرت کے اس جواب پر میں بہت خوش ہوا اور اسی وقت حضرت نے لکھنا شروع کیا یہاں تک کہ کل چار گھنٹہ میں پورا رسالہ بنام ”عصمت عائشہ میں حکمت خداوندی“ زیور تالیف سے آراستہ ہو گیا، جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

آپ اس کا مطالعہ فرمائیں اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق جو گمراہ کن غلط فہمیاں گمراہ گروں نے آپ تک پہنچائی ہیں ان سے یکلخت کنارہ کش ہو کر انصاف و دیانت سے ایمان کی بات کیجئے۔

رسول پروردگار ذی شان عالی وقار نبی مختار ﷺ کی اہلیہ محترمہ، ہم سب مسلمانوں کی ماں کے تعلق سے اگر کوئی مسلمان تو درکنار غیر مسلم بھی ایسی باتیں کہہ کر نکل جائے اور ہم میں سے کسی کے سر پر جو تک رنگیں تو یہ یقیناً ہماری ایمان کی کمزوری ہوگی۔ جس معزز خاتون کو نبی مختار نے اپنی شریک حیات بنایا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دور حاضر کے وہابیہ، تبلیغیہ اور دیگر فرق باطلہ کے لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعہ کے تعلق سے سرکارِ دو عالم ﷺ کے علم غیب پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور عوام الناس کو ورغلائے کیلئے یہ کہتے ہیں کہ اگر سرکارِ دو عالم ﷺ کو علم غیب تھا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملہ میں اتنا سکوت کیوں فرمایا اور وحی کے منتظر کیوں تھے؟ اس طرح کی لایعنی باتوں سے عوام الناس کو حق سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیچارے، کم علم لوگ ان کے بہکاوے میں آجاتے ہیں اور نتیجہ علم غیب مصطفیٰ کے انکار کرنے سے ایمان کی لازوال دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور آخرت کے دردناک عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مباحث کا آپ بغور مطالعہ فرمائیں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ منافقین زمانہ اس واقعہ کے ضمن میں کیسی دھوکہ بازی سے کام لیتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے ہیں۔

ہو ان کے تعلق سے ایک بے ایمان اور بدتمیز گستاخ ہی ایسی باتیں کہہ سکتا، سن سکتا ہے، اہل ایمان اسے کبھی برداشت نہیں کرے گا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولیٰ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور انبیاء اولیاء اہل بیت اطہار کی محبت میں روز افزوں اضافہ فرمائے۔ نیز حضرت موصوف کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مرکز اہل سنت کو دن دوئی رات چوگنی ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ آمین

ارشاد علی جیلانی "جان" جیل پوری

خادم: مرکز اہل سنت برکات رضا

پور بندر (گجرات)

۲۱ رمضان المبارک ۱۴۲۲ھ

۱۷ نومبر ۲۰۰۳ء

آقائے کائنات ﷺ کا علم غیب قرآن کی متعدد آیات اور احادیث کے بے شمار متون سے ثابت ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔

حضور اقدس ﷺ اپنی ازواج مطہرات میں جو عدل و انصاف اور جو اعتدال فرماتے اس کی نظیر دنیا کے کسی شخص میں نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ سفر میں جاتے وقت اگر کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جانے کا ارادہ فرماتے تو عدل و انصاف کے تقاضے کے تحت قرعہ اندازی فرماتے اور جس زوجہ مطہرہ کے نام قرعہ نکلتا اسے سفر میں ہم رکابی کا شرف عطا فرماتے۔

۵۔ میں غزوہ بنی المصطلق میں حضور اقدس ﷺ نے تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا۔ اور ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالا۔ اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نکلا۔ غزوہ بنی المصطلق ۵۔ سے پہلے آیت حجاب نازل ہو چکی تھی۔ یعنی عورتوں کیلئے پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ قرآن مجید پارہ ۲۲ سورہ احزاب میں آیت حجاب نازل ہو چکی تھی۔ غزوہ بنی المصطلق کا واقعہ غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ سے قبل کا ہے۔ غزوہ بنی المصطلق میں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس ﷺ کے ساتھ تشریف لے گئیں۔ ان کی سواری کا بندوبست ایک اونٹنی پر محمل یعنی کجاوے میں کیا گیا۔ اس کجاوے کو پردہ کیلئے اچھی طرح محبوب کہا گیا۔ تاکہ کسی غیر محرم کی نظر ام المؤمنین پر نہ پڑے۔ آپ کجاوے میں پردے کے کامل انتظام کے ساتھ بیٹھ جاتیں۔ اور پھر

اس کجاوے کو اونٹ کی پیٹھ پر رسیوں سے باندھ دیا جاتا۔ پڑاؤ اور منزل پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کجاوے کے اندر بیٹھی رہتی تھیں۔ اور کجاوے کو اونٹ کی پیٹھ سے اتار لیا جاتا تھا۔ اب پورا واقعہ جس کو ”حدیث افک“ کے نام سے شہرت ملی ہے۔ اس کو خود سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مقدس زبان سے سنئے۔

اصل واقعہ کیا تھا؟

شیخین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس ﷺ غزوہ سے فارغ ہو کر روانہ ہوئے۔ اور مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر پڑاؤ کا حکم فرمایا میں اٹھی اور قضائے حاجت کیلئے لشکریوں کے پڑاؤ اور ٹھہراؤ۔ سے ذرا فاصلے پر باہر چلی گئی، فراغت پا کر اپنی قیام گاہ پر لوٹی تو اتفاق سے میرا ہاتھ سینے پر گیا، تو مجھے پتہ چلا کہ میرا ہار گلے میں نہیں ہے۔ وہ ہار جزع عفار کا بنا ہوا تھا۔ میں اسی جگہ پر واپس گئی تو ہار کو تلاش کرنے لگی۔ اور اس تلاش میں دیر لگ گئی۔ ادھر لشکر روانہ ہو رہا تھا جو لوگ میرا کجاوہ (محمل) اونٹ پر رکھتے اور باندھتے تھے وہ آئے اور یہ سمجھا کہ میں اس کجاوے (محمل) میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ محمل کو اٹھا کر اونٹ کی پیٹھ پر باندھ دیا۔ میں ایک کم وزن اور سبک جسم عورت تھی۔ لہذا ان کو یہ پتہ نہ چلا کہ محمل خالی ہے یا بھرا ہوا

ہے۔ میں جب ہارتلاش کر کے اقامت گاہ پر لوٹی تو لشکر روانہ ہو چکا تھا۔ جہاں لشکر کا پڑاؤ تھا، وہاں پر اب کوئی بھی موجود نہ تھا جس جگہ پر میرا ڈیرہ تھا میں اس جگہ آکر بیٹھ گئی۔ میرا خیال یہ تھا کہ حضور اقدس ﷺ جب مجھ کو نہ پائیں گے تو کسی کو بھیج کر مجھ کو بلوالیں گے۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ بیٹھے بیٹھے آنکھیں بوجھل ہوئیں، نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے پیچھے ”معقب کارواں“ کی خدمت پر مامور تھے (معقب کارواں یعنی پہلے زمانہ میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی قافلہ یا لشکر کوچ کرتا تھا تو ایک شخص کارواں یا لشکر کے پیچھے رکھا جاتا تھا تا کہ کارواں سے کسی کی کوئی چیز گر جائے تو وہ شخص اٹھالے اور پھر منزل پر پہنچ کر امیر کارواں کے سپرد کر دے، اور امیر کارواں تحقیق کر کے جس کی وہ چیز ہوا سے دیدے) حضرت صفوان بن معطل صبح کے وقت اس مقام پر پہونچے اور مجھ کو سوتا پایا۔ چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے جب عورتوں کے شرعی پردے نہ تھے، تب انہوں نے مجھ کو دیکھا تھا، اس لئے انہوں نے مجھ کو پہچان لیا۔ اور مجھ کو پہچان لینے پر فوراً استرجاع پڑھا۔ یعنی ”انا لله وانا الیہ راجعون“۔ ان کے استرجاع پڑھنے سے اس بیدار ہوئی اور چہرے اور جسم کو میں نے چادر میں اور زیادہ چھپا لیا، حضرت صفوان نے استرجاع کے علاوہ کچھ بھی نہ کہا اور نہ میں نے کچھ سنا۔ انہوں نے اونٹنی سے اتر کر اونٹنی کو بٹھایا اور میں جا کر سوار ہو گئی۔ اور حضرت صفوان اونٹنی کو کھینچ کر چل دیئے۔ ہم نے چل کر لشکر کو سخت دھوپ اور گرمی کے وقت

ٹھہراؤ میں پالیا۔ پھر ہلاک ہوا جس کو میرے معاملے میں ہلاک ہونا تھا اور جس شخص نے سب سے بڑھ کر اس کی تشہیر اور اتہام طرازی کی وہ عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق تھا۔

حوالہ: (الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الودی

از: امام علامہ جلال الدین سیوطی اردو ترجمہ، جلد ۱، ص ۳۳۹ تا ۳۵۰)

بس اتنی سی بات تھی لیکن مدینہ طیبہ کے منافقین اور خصوصاً عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق نے اپنے خبث باطن اور دل میں چھپے ہوئے نفاق کا اظہار کرتے ہوئے ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت اور پاک دامنی کے خلاف تہمت اور افترا پردازی کا طوفان کھڑا کر دیا۔ فتنے کا طوفان برپا ہو گیا۔ منافقین کے ساتھ کفار اور مشرکین بھی شامل ہو گئے، کچھ ضعیف الاعتقاد، سادہ لوح، بھولے بھالے مسلمان بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے۔

جہاں دیکھو وہاں صرف ایک ہی بات، مبالغہ، غلو اور جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ منافقین نے اس واقعہ کو اتنی اہمیت اور شہرت دی کہ خدا کی پناہ۔ ایک عظیم فتنہ کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ اجلۂ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے منافقین کے بہتان و افک کا دندان شکن جواب دیا اور بارگاہ رسالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت اور پاک دامنی کا اظہار کیا۔

امیر المؤمنین خلفیۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بارگاہ

رسالت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے جسم اقدس پر جب کہ مکھی تک نہیں بیٹھتی کیونکہ اس کے پاؤں نجاستوں سے آلودہ ہوتے ہیں تو حق تعالیٰ آپ کے لئے کیسے گوارا کرے گا، اس بات کو جو اس سے کہیں زیادہ بدترین ہو اور اس سے آپ کی حفاظت نہ فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کا سایہ زمین پر نہیں گرتا، مبادا کہ وہ زمین ناپاک ہو۔ حق تعالیٰ جب کہ آپ کے سائے کی اتنی حفاظت فرماتا ہے تو آپ کی زوجہ محترمہ کی ناشائستگی سے کیوں نہ حفاظت فرمائے گا۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! حق تعالیٰ نے اتنا گوارا نہیں فرمایا کہ آپ کے پائے اقدس کے نعلین مبارک میں نجاست کی آلودگی ہو اور وہ آپ کو اس کی خبر دیتا ہے کہ آپ نعلین کو پائے اقدس سے اتار دیں۔ تو اگر یہ واقعہ نفس الامر میں وقوع پذیر ہوتا تو یقیناً رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی خبر دیتا۔

(۱) مدارج النبوة از شیخ عبدالحق محدث دہلوی اردو، جلد ۱۔ ص ۲۸۰۔

(۲) الخصائص الكبرى، امام جلال الدین سیوطی۔ اردو ترجمہ جلد ۱۔ ص ۳۵۳۔

حضور اقدس ﷺ نے اشارۃ الزام کی تردید فرمائی

منافقین و مشرکین کی جانب سے حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت اور پاک دامنی پر مسلسل الزامات و اتہامات کا سلسلہ جاری رہا۔ بلکہ روز بروز اس میں اضافہ اور مبالغہ ہوتا رہا۔ ادھر صحابہ کرام و جانشاران بارگاہ

رسالت منافقین کے اقوال و الزامات کی تردید فرماتے رہے۔ یہ معاملہ ایک ماہ سے زیادہ طول پکڑ گیا۔ حضور اقدس ﷺ نے بر بنائے مصلحت سکوت فرمایا اور منافقین کو کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت اور پاک دامنی سے آپ یقیناً باخبر تھے لیکن مصلحت ایزدی کی بنا پر آپ نے اپنی رفیق حیات کی برأت کا صراحتاً اعلان نہ فرمایا۔ البتہ اشارۃ اپنے جاں نثار صحابہ کے سامنے ان الفاظ میں ذکر فرمایا کہ **وَاللّٰهُ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا** یعنی خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ میری اہلیہ کا دامن اس تہمت سے پاک ہے۔

یہاں تک کہ اس فتنہ کے دوران آپ نے مسجد نبوی میں دوران خطبہ فرمایا کہ ”کون ہے جو میری مدد کرے، اور اس شخص سے انتقام لے جس نے بلاشبہ مجھے اور میری اہل کو ایذا پہنچائی“ (اس سے مراد عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق تھا) پھر فرمایا کہ ”قسم ہے خدا کی! میں اپنی اہل سے پارسائی کے سوا کچھ نہیں جانتا“

قارئین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اس واقعہ کا گہری نظر سے مطالعہ فرمائیں اور اس پر غور و فکر فرمائیں کیونکہ اس واقعہ کے ضمن میں جس طرح زمانہ اقدس ﷺ کے منافقین نے فتنہ برپا کر رکھا تھا، اسی طرح دور حاضر کے منافقین فرقہ و ہابیہ، نجدیہ، تبلیغیہ وغیرہم نے بھی اس واقعہ کے ضمن میں بہت اودھم مچا رکھا ہے اور اس واقعہ کو حضور اقدس ﷺ کے علم غیب کی نفی میں بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور معاذ اللہ یہاں تک بکواس کرتے ہیں کہ اگر حضور اقدس ﷺ کو علم غیب ہوتا تو آپ علی الاعلان حضرت عائشہ کی برأت ظاہر کرتے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا۔ دور حاضر کے منافقین کا یہی

شیوہ ہے کہ وہ توہین و تنقیص رسالت کرنے کیلئے قرآن کے معنی اور احادیث کے مفہوم میں ترمیم و تردد پیدا کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں بقول:

ذکر رو کے فضل کاٹے ، نقص کا جویاں رہے
پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی
(از: امام احمد رضا، محدث بریلوی)

مذکورہ واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اس واقعہ میں کیا کیا اسرار و رموز مخفی تھے؟ نیز حضور پاک ﷺ نے کس مصلحت کی بنا پر سکوت فرمایا؟ اور اس میں کیا حکمت تھی؟ وہ انشاء اللہ کتاب کے اختتام میں عرض کروں گا۔ پہلے اس واقعہ کو تفصیل سے ذکر کرتا ہوں۔

جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لشکر کے قافلے سے بچھڑ گئیں اور قافلہ جب روانہ ہو گیا تب تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ حضرت عائشہ بچھڑ گئی ہیں۔ محل اٹھانے والوں نے یہی سمجھ کر محمل (کجاوے) کو اونٹ پر رکھ دیا تھا کہ آپ اس کے اندر تشریف فرما ہیں۔ لیکن جب یہ لشکر مدینہ شریف کے قریب صلصل نامی مقام پر ٹھہرا اور اونٹ بٹھائے گئے، مگر محمل سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا باہر تشریف نہ لائیں، تب پتہ چلا کہ آپ پیچھے رہ گئیں ہیں، ان کے انتظار میں لشکر بمقام صلصل ٹھہرا ہا لشکر میں پانی اس انداز سے تھا کہ مدینہ شریف پہنچ جائے۔ لیکن ام المومنین کے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے قافلہ کو مجبوراً ان کے انتظار میں رکنا پڑا اور لشکر میں جتنا پانی تھا، وہ صرف ہو گیا۔ نماز کا وقت آیا تو وضو کیلئے پانی نہیں تھا پینے

کیلئے بھی پانی کی تنگی تھی۔ پانی کے بغیر وضو اور وضو کے بغیر نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن چونکہ یہ قافلہ محبوبہ محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وازواجہ وبارک وسلم کے انتظار میں ٹھہرنے کی وجہ سے پانی کی قلت کی دقت و مصیبت میں مبتلا تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حرم محترمہ کے صدقے اور طفیل ان لشکر والوں پر مہربان ہو کر، ان پر اور ان کے طفیل قیامت تک کے مسلمانوں پر کرم فرما کر یتیم کا حکم نازل فرمایا۔ جس کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت سید بن خضیر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ صدیقہ میں عرض کیا کہ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَزَكَتِكُمْ يَا آلِ أَبِي بَكْرٍ اے اولاد ابوبکر! یہ تمہاری پہلی برکت نہیں“ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو تمہاری بہت سی برکتیں پہنچی ہیں۔ (مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد ۲، ص ۲۷۵)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ واپس آئے، تو مشیت ایزدی سے ان ہی دنوں میں بیمار ہو گئی۔ میں گھر ہی میں تھی۔ ایک ماہ سے زیادہ میں بیمار رہی۔ باہر میرے خلاف فتنہ پردازوں نے جو الزامات اٹھا رکھے تھے، اس کا مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ ایک دن ام مسطح نام کی عورت نے الزام تراشیوں کی اتہام سازیوں کی ساری باتیں مجھ سے بیان کیں۔ جنہیں سن کر میں پہلے سے زیادہ بیمار ہو گئی۔ ایک روز حضور اقدس ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور سلام علیک کے بعد مجھ سے فرمایا ”تم کیسی ہو؟“ میں نے اپنی کیفیت بتانے کے بعد عرض کیا کہ اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں چند دنوں کیلئے اپنے والدین کے گھر

چلی جاؤں۔ حضور نے اجازت عطا فرمائی اور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئی۔ میں نے اپنی والدہ سے تمام باتیں دریافت کیں۔ میں تمام رات روتی رہی اور صبح ہو جانے پر بھی میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے، تمام شب جاگتی ہی رہی، پلک تک نہ چپکی۔ میں دن بھر مسلسل روتی رہی، میرے آنسو روکے نہ رکتے تھے اور نیند نام کو بھی نہ تھی، مجھ کو اندیشہ ہوا کہ شدت گریہ کی وجہ سے شاید میرا جگر پھٹ جائے گا۔

حوالہ: (الخصائص الكبرى، اردو ترجمہ، جلد ۱، ص ۳۵۱)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور اقدس ﷺ مجھ کو ملنے میرے گھر تشریف لائے۔ اور مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ! میرے حضور تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، لہذا اگر تم بری اور پاک ہو، تو عنقریب اللہ تمہاری پاکی بیان فرمائے گا اور تمہاری برأت کی خبر نازل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ کہ حضور کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر میرے آنسو ختم گئے یہاں تک کہ میری آنکھوں میں ایک قطرہ تک بھی نظر نہ آتا تھا۔ یہ اس خوشی کی بنا پر تھا جو میں نے حضور اکرم ﷺ کے کلام مبارک سے بشارت پائی تھی۔

حوالہ: (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد ۲، ص ۲۸۱

(۲) خصائص کبری، اردو ترجمہ، جلد ۱، ص ۳۵۲

حضرت عائشہ کی برأت میں قرآنی آیات کا نزول

ام المؤمنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں امید

رکھتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری برأت فرمادے گا۔ اور میری پاکی اور پاک دامنی کی خبر دے گا۔ لیکن مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ اللہ میرے اس معاملہ میں وحی نازل فرمائے گا۔ کیونکہ میں اپنے آپ کو اور اپنے معاملے کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ البتہ مجھ کو صرف اس بات کی توقع تھی کہ رسول اللہ ﷺ شاید خواب دیکھیں گے اور اس ذریعہ سے مجھ بے چاری کی عفت اور عصمت پر گواہی مل جائے گی۔ اللہ کا کرم دیکھئے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے کہ یکا یک حضور پر نزول وحی کے آثار نمودار ہوئے اور جو شدت ایسے موقع پر ہوتی تھی وہ شروع ہوئی۔ حتیٰ کہ آپ کی پیشانی مبارک پر موتیوں کے مانند پسینہ چمکنے لگا۔ آپ پر خوب ٹھنڈی کے موسم میں بھی نزول وحی کی شدت سے پسینہ وغیرہ کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اور یہ اس گرانی اور بوجھ کی وجہ سے ہوتا تھا، جو کلام مجید آپ پر اترتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور اقدس ﷺ نزول وحی کی کیفیت سے فارغ ہوئے، تو آپ کا یہ حال تھا کہ آپ تبسم فرما رہے تھے۔ سب سے پہلی بات جو حضور نے فرمائی وہ یہ تھی کہ ”اے عائشہ صدیقہ! حق تعالیٰ نے تمہیں بری قرار دے کر تمہیں پاک گردانا ہے۔ اس تہمت سے تمہاری پاکی بیان کی ہے اور تمہاری شان میں قرآن بھیجا ہے۔“

حوالہ: (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد ۲، ص ۲۸۳

(۲) خصائص کبری، اردو ترجمہ، جلد ۱، ص ۳۵۲

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت اِنَّ الَّذِيْنَ

جَاؤْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ (پارہ ۱۸، سورہ نور، آیت ۱۱) ترجمہ: ”بے شک وہ کہ یہ بہت بڑا بہتان لائے ہیں، تمہیں میں کی ایک جماعت“ (کنز الایمان) سے لے کر دس ۱۰ آیتوں تک وحی ہوئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت میں دس آیات مذکورہ اور دیگر آٹھ ۸ آیات ملا کر کل ۱۸ اٹھارہ آیات نازل فرمائیں۔ سورہ نور آیت ۴۔ پارہ اٹھارہ میں صاف حکم نازل ہوا کہ:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شَهَادَةٍ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔

ترجمہ: ”اور جو پارہ ساعورتوں کو عیب لگائیں، پھر چار گواہ معائنہ کے نہ لائیں تو انہیں اسی ۸۰ کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو۔“

(کنز الایمان)

ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت اور افک کے سلسلہ میں قرآن مجید کا انداز بیان بڑا جامع اور پر زور ہے۔ اس میں اعجاز و ایجاز اور احکامات و تنبیہات اس اسلوب سے بیان کئے گئے ہیں کہ معصیت کے کسی دوسرے وقوع اور موقع پر اس انداز سے بیان نہیں کئے گئے۔ تہمت طرازی اور خن سازی کا منافقین کی طرف سے جو مظاہرہ ہوا، جس سے اہل بیت رسول اور خود رسالت مآب ﷺ کو جو انتہائی صدمہ، دکھ، اور تکلیف پہونچی تھی، اس کی وجہ سے انداز بیان میں شدت ہوئی ہے۔

الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الوری میں امام اجل حضرت علامہ عبدالرحمن جلال الدین سیوطی قدس سرہ نے زختری کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ ”اصنام پرستی اور شرک کے بارے میں جو تنبیہات ہیں، وہ بھی مقابلہ اس سے کچھ کم ہی ہیں۔ کیونکہ یہ ایک پاکباز زوجہ رسول ﷺ کی طہارت و برأت کی حامل ہیں۔“

وحی کے نزول کے بعد حضور اقدس ﷺ نے سورہ نور کی دس ۱۰ آیتوں کی تلاوت فرمائی اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں سے نکل کر خوش و خرم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ کو جمع فرما کر خطبہ دیا اور اس کے بعد نازل شدہ آیتوں کی صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اور تہمت لگانے والوں کو طلب فرمایا۔ تہمت لگانے والے جب بارگاہ رسالت میں حاضر کئے گئے، تو سرکار نے ان پر ”حد فخذ“ جاری فرمایا اور ہر ایک کو اسی ۸۰ اسی ۸۰ کوڑے لگوائے۔

(حوالہ: مدارج النبوة۔ اردو، جلد ۲۔ ص ۲۸۳)

یہاں تک کے مطالعہ سے واقعہ کی ابتدا سے انتہا تک کی واقفیت حاصل ہو چکی ہوگی۔ اب دور حاضر کے منافقین کے اعتراضات میں سے اہم اعتراض جو اس واقعہ کے ضمن میں حضور اقدس ﷺ کے علم غیب پر ہیں اس کا جواب دیں۔

منافقین زمانہ کے اعتراضات

دور حاضر کے منافقین یعنی وہابی، نجدی، دیوبندی، اور تبلیغی فرقہ باطلہ کے

مبلغین و مقررین اپنے جہالت سے لبریز بیان اور تقریر جو دراصل تقریر نہیں بلکہ تفریق بین المسلمین ہوتی ہے۔ بڑے تپ و تپاک سے اودھم مچاتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت و پاک دامنی کے سلسلہ میں حضور نے ایک ماہ سے بھی زیادہ عرصہ تک سکوت کیوں فرمایا؟ آپ نے فی الفور ان کی برأت کا اعلان کیوں نہ کر دیا؟ بلکہ وحی کے منتظر رہے۔ اور جب وحی آئی تب آپ نے برأت کا اعلان فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو آپ فوراً برأت کا اعلان کر دیتے۔ (معاذ اللہ)

بس یہی ہے ان کے دعویٰ کی دلیل و برہان۔ مشیت ایزدی اور حکمت الہیہ کے رموز کو سمجھنے سے یک لخت قاصر و عاجز ہونے کی وجہ سے ایسی بے ڈھنگی بات کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اس واقعہ کے پردے میں اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں اور ان تمام حکمتوں سے اللہ نے اپنے محبوب اعظم ﷺ کو آگاہ فرما دیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے سکوت فرمایا تھا۔ کچھ وجوہات ذیل میں عرض ہیں۔

حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین کی طرف سے تہمت لگائی گئی تھی، منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن دل سے وہ مومن نہیں ہوتا۔ زبان سے تو قسمیں کھا کھا کر حضور اقدس ﷺ کو اللہ کا رسول ہونے کا اقرار کرتے تھے لیکن پیٹھ کے پیچھے حضور کی شان میں نازیبا کلمات کہہ کر آپ کی گنہ گری کرتے تھے اور آپ کو جھٹلاتے تھے۔ منافقین کی ان دو غلی باتوں کا

اللہ نے پردہ فاش فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ایک مکمل سورۃ بنام ”منافقون“ نازل فرمائی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ“

(پارہ ۲۸۔ سورہ منافقون۔ آیت ۱)

ترجمہ: ”جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بیشک یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں“ (کنز الایمان)

ان منافقین کی ایک خاص بات کا ذکر قرآن شریف میں اس طرح ہے کہ:

”إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَاوَا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ“ (پارہ ۱۔ سورۃ البقرۃ، آیت ۱۴)

ترجمہ: ”اور جب ایمان والوں سے ملیں، تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں، تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔“ (کنز الایمان شریف)

رسول کے ماننے میں اور ایمان کے اقرار میں منافقین دو غلی بولی بولتے ہیں اور ان کے اقرار و ایمان کا کچھ بھی اعتبار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ

منافقین ضرور جھوٹے ہیں۔ منافق کو صرف جھوٹا نہیں بلکہ ”ضرور جھوٹا“ کہا گیا ہے۔ یعنی ان کا جھوٹ اتنا عام ہے کہ ان سے صدق کی توقع ہی نہیں کی جاسکتی۔ منافقوں کی بے حیائی اور بے شرمی کا یہ حال تھا کہ ابھی انکار اور ابھی رجوع۔ بلکہ دن کے اجالے کو رات کی اندھیری کہہ دینے میں بھی ان کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ رسول اکرم ﷺ کو جھٹلاتے تھے، آپ کی تکذیب کرتے تھے، آپ کے بین معجزات کو معاذ اللہ جادو اور سحر کہتے تھے۔ لہذا ان جھوٹوں کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برأت کا اعلان کرنا بے سود تھا۔ اگر حضور اقدس ﷺ اپنی طرف سے حضرت عائشہ کی برأت کا اعلان فرماتے، تو منافقین ایک الزام یہ گڑھتے کہ دیکھو! اپنی بیوی کا دفاع کر رہے ہیں، زوجیت کی بناء پر طرفداری کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے عیب پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

حضور اقدس ﷺ کو یقین کے درجہ میں اس معاملہ کا علم تھا

حالانکہ حضور اقدس ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں یقیناً باخبر تھے۔ اسی لئے تو اپنے جاٹا صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے سامنے حضرت عائشہ کے معاملے میں فرمایا وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِيْٓ إِلَّا خَيْرًا یعنی: ”خدا کی قسم! میں اپنی اہل سے پارسائی کے سوا کچھ نہیں جانتا“ اس جملے کو غور سے ملاحظہ فرمائیے۔ حضور نے اس جملے کو ”وَاللّٰهِ“ یعنی ”خدا کی قسم“ سے مؤکد

فرمایا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو حضرت عائشہ کی عصمت کا صرف گمان نہیں تھا بلکہ یقین کامل تھا۔ اسی لئے تو اللہ کی قسم سے جملے کی ابتدا فرما کر اپنے یقین کامل کا اظہار فرما رہے ہیں۔ جب نبی اور رسول معصوم ہیں۔ ان سے گناہ کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے اور جھوٹ بولنا گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت کا اعلان ہے۔ تو نبی اور رسول کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور پھر جھوٹ پر اللہ کی قسم کھانا، اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا لازم ہے کہ رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور کبھی بھی خدا کی جھوٹی قسم نہیں کھاتے۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے خدا کی قسم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت فرما رہے ہیں، تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو اس واقعہ کی حقیقت کا یقین کے درجہ میں علم تھا، بلکہ یہ بھی معلوم تھا کہ یہ تہمت لگانے والا اور فتنہ اٹھانے والا کون ہے؟ اسی لئے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ: ”کون ہے جو میری مدد کرے؟ اور اس شخص سے انتقام لے جس نے بلاشبہ مجھے اور میری اہل کو ایذا پہنچائی“ حضور اقدس ﷺ کے اس اعلان سے جوش الفت کے جذبے کے تحت طیش میں آ کر منافقوں کے سردار عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، اس سے انتقام لینے کیلئے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے لیکن حضور نے انہیں باز رکھا۔ اور مصلحتاً خاموش کر دیا کیونکہ اگر حضور ان حضرات کو اجازت انتقام عطا

فرماتے اور وہ تہمت لگانے والے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کو قتل کر دیتے، تو دیگر منافقین یہ واویلا مچاتے کہ حضور نے اپنی زوجہ کی طرفداری میں حقیقت واقعہ کو چھپانے کیلئے عبداللہ بن ابی کو ہمیشہ کیلئے خاموش کر دیا۔ اپنی زوجہ کی پاک دامنی کا کوئی ثبوت نہ تھا، لہذا قتل و غارت گری کی راہ اپنائی۔ اسی لئے حضور اقدس ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو خاموش کر دیا۔ تاکہ فتنہ کی آگ اور زیادہ نہ بھڑکے۔

دور حاضر کے منافقین صرف اسی بات کی رٹ لگاتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنی طرف سے حضرت عائشہ کی برأت کا اعلان نہ کرتے ہوئے سکوت کیوں اختیار کیا۔ اس کا جواب ضمناً تو اوپر بیان ہو چکا کہ اگر آپ برأت کا اعلان فرماتے تو منافقین ماننے والے نہ تھے بلکہ دیگر الزامات تراشتے۔ اس لئے حضور نے سکوت فرمایا۔ اور ایک اہم مصلحت یہ تھی کہ حضور برأت کا اعلان کریں وہ اتنا موثر نہ ہوگا جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان برأت کا اثر ہوگا۔ اس کو ایک آسان مثال سے سمجھیں کہ ایک بادشاہ کی کوئی چیز گم ہوگئی، کچھ مخالف لوگوں نے چوری کا الزام بادشاہ کے وزیر اعلیٰ کے بیٹے پر لگایا۔ حالانکہ کہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا بے قصور تھا۔ وزیر اعلیٰ کو اپنے بیٹے کے بے قصور ہونے کا یقین کے درجہ میں علم ہے۔ لیکن وقت کا تقاضا اور مصلحت حالات یہ ہے کہ وزیر خاموش ہی رہے۔ کیونکہ اگر وزیر اٹھ کر اپنے بیٹے کے بے قصور ہونے کا اعلان کرے گا تو الزام لگانے والے مخالفین کا گروہ یہی

کہے گا کہ اپنے بیٹے کی محبت اور طرفداری میں وزیر اعلیٰ اپنے عہدے اور منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لہذا وزیر اعلیٰ سکوت اختیار کرے یہی بہتر و مناسب ہے، چاہے تہمت کی آندھی کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو جائے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ صبر کرے اور خاموش رہ کر اس وقت کا انتظار کرے کہ حق بات واضح ہو کر سامنے آجائے۔ اچانک ایک دن بادشاہ سلامت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے فرزند ارجمند پر چوری کا جو الزام لگایا گیا ہے اس میں وہ بری اور بے قصور ہے۔ وزیر زادہ دیا نندار اور نیک بخت ہے۔ ایسے نیک بخت پر چوری کا الزام لگانا، ظلم شدید اور گناہ عظیم ہے۔ ہم وزیر زادہ کو اس چوری کی تہمت سے باعزت بری کرنے کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ حکم نافذ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسے نیک بخت اور دیا نندار پر غلط الزام لگاتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اس اعلان کے بعد الزام لگانے والوں کو بادشاہ کوڑے لگوائے اور کوڑے لگانے کا کام اپنے وزیر کے ہاتھ سے انجام دلوائے۔

اب قارئین کرام، سوچیں! وزیر زادہ کی عزت کس میں بڑھی؟ اگر وزیر اپنے بیٹے کی برأت کا اعلان کرتا ہے تو اس میں وہ عزت و شان حاصل نہ ہوتی جو عزت اور مرتبہ بادشاہ کے اعلان سے حاصل ہوا۔ ٹھیک اسی مثال کو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعہ میں ذہن نشیں کہہ کے سوچیں کہ حضور اقدس ﷺ کی طرف سے برأت و عصمت کے اعلان میں منافقین کو طرفداری اور پاسداری کے

الزام کی گنجائش تھی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برأت کا اعلان قرآن مجید میں فرمادیا، تو اب کسی کو سسکنے کی، بھسکنے کی، بدکنے کی، رینگنے کی گنجائش ہی نہ رہی۔

اگر حضور اقدس ﷺ اپنی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت کا اعلان فرماتے تو وہ حدیث کہلاتی اور یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں دیگر واقعات کی طرح شمار کیا جاتا۔ حدیث کے متن (عبارت) کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی لیکن اللہ نے حضرت عائشہ کی برأت کا قرآن مجید میں اعلان فرمایا۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عظمت قیامت تک نماز میں تلاوت قرآن مجید کے ذریعہ ظاہر ہوتی رہے۔ عوام مسلمین میں دینی تعلیم و معلومات حاصل کرنے کی رغبت اور شوق دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم لوگ اپنی اولاد کو دے پاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں حدیث و فقہ کے علم کی طرف بہت کم افراد مائل ہیں۔ اگر برأت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بذریعہ حدیث ہوتی تو اتنی شہرت و عزت نہ ملتی جتنی کہ قرآن مجید سے برأت ہونے پر حاصل ہوئی۔

چھوٹا سادہات ہوگا، چاہے اس میں مسلمان کے دور چار ہی مکان ہوں لیکن وہاں کسی نہ کسی گھر میں قرآن مجید ضرور ہوگا۔ لیکن وہاں کتب احادیث کا ہونا ناممکن ہے۔ بلکہ اکثر شہروں میں جہاں دارالعلوم نہیں ہوتے وہاں بخاری شریف، مسلم شریف و دیگر کتب احادیث کا ہونا ناممکن ہے۔ علاوہ ازیں دنیا کا کوئی بھی ایسا

گوشہ نہیں ہے جہاں کلام مجید کا نسخہ موجود نہ ہو۔ برعکس اس کے کتب احادیث بہت کم دستیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعہ برأت حضرت عائشہ کا جو اعلان فرمایا ہے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اپنے محبوب اعظم ﷺ کی زوجہ محترمہ کی شان و شوکت کا ذکر قیامت تک بجاتا رہے۔

اگر بجائے قرآن مجید احادیث سے حضرت عائشہ کی برأت و عصمت کا اعلان ہوتا، تو منکرین عظمت کو تنقیص کیلئے ایک راہ یہ ملتی کہ وہ اپنی ذہنی اختراع سے یہ کہہ دیتے کہ ”یہ حدیث ضعیف ہے“ جیسا کہ دور حاضر کے منافقین وہابی، نجدی، دیوبندی، تبلیغی لوگ عظمت و تعظیم مصطفیٰ ﷺ کے جواز و ثبوت کی احادیث سے عوام کو بے التفات و بے اعتماد کرنے کیلئے بلا کسی ثبوت علم اسماء الرجال کہہ دیتے ہیں کہ ”یہ حدیث ضعیف ہے“ لیکن قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو ضعیف کہنے کی کسی میں جرأت نہیں۔ اور اسی حکمت کے تحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت کا اعلان قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔

عورت کے حقوق کی پاسداری

اسلام ایک ایسا کامل مذہب ہے کہ جس نے نوع انسان کو حیات جاودانی بخشی ہے۔ حقوق الناس کی صحیح پہچان اور نشاندہی اسلام ہی نے عالم دنیا کو بتائی ہے۔ اسلام نے دنیا کو معاشرت کا صحیح طریقہ و سلیقہ دکھایا ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکنا

اور مظلوم کی حمایت کرنا اسلام کا طریق عمل ہے۔ خصوصاً عورتوں پر اسلام کا عظیم احسان ہے۔ ابتدائے اسلام کے دور میں عورت کو اتنا ذلیل سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تھی، تو گویا اس کو سانپ سونگھ گیا ہو ایسا اس کا چہرہ ہو جاتا تھا اور سماج کے رواج کے مطابق لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ میراث میں عورت کو کچھ بھی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ عورت کو صرف دل بہلانے کا کھلونا سمجھ کر اس سے دل لگی کی جاتی تھی۔ اور جب اس سے جی بھر جاتا، تو اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکتے تھے۔ عورت پر زنا اور دیگر عیوب کے الزام لگا کر اس کو رسوا اور ذلیل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کسی بھی باعصمت و پاک دامن خاتون کو ایک آن میں فاحشہ اور بدکردار کے القاب سے نوازنے میں کسی بھی قسم کی جھجک محسوس نہیں کی جاتی تھی، جس کے جی میں جو آیا، وہ منہ سے کہہ دیتا تھا لیکن محبوبہ محبوب رب العالمین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا روئے زمین کی تمام عورتوں پر احسان ہے کہ آپ کے سبب سے قرآن مجید میں عورتوں کی عصمت کی پاسداری اور پاسبانی کی گئی۔ ان کی پاک دامن کی عظمت کی حفاظت کی گئی اور بات بات میں عورتوں کی پاک دامن پر تہمت کا کیچڑ اچھالنے والوں کو متنبہ کرتے ہوئے قرآن مجید پارہ ۱۸ سورہ نور، آیت نمبر ۴ میں صاف اور صریح حکم فرمایا گیا کہ: ”اور جو لوگ پاسداری عورتوں کو عیب لگائیں، پھر چار گواہ معائنہ کے نہ لائیں، تو انہیں اسی ۵۰ کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کے نزول سے عورتوں کی پارسائی پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں فعل قبیح کی تہمت لگانے والوں کے منہ پر علی گڑھی تالے لگ گئے۔ صرف منہ پہ تالا ہی نہ لگایا گیا، بلکہ تالا کھولنے والوں کو اسی ۵۰ کوڑے لگانے کی سزا متعین کی گئی۔ جس کو شرعی اصطلاح میں ”حد قذف“ کہا جاتا ہے۔ صرف قذف پر ہی اکتفا نہ کیا گیا بلکہ تہمت لگانے والے کو دائمی طور پر ”مردود الشہادۃ“ قرار دیا گیا۔ یعنی ہمیشہ کیلئے اس کی ہر گواہی متروک و غیر معتبر کر دی گئی۔ مذکورہ آیات کے علاوہ کئی آیات جھوٹی تہمت لگانے والوں کی مذمت میں سورہ نور میں نازل ہوئی ہیں۔ جن کا تفصیلی ذکر یہاں نہ کرتے ہوئے صرف اتنا ہی عرض کر دیتا ہوں کہ ایسے تہمت بازوں کو سورہ نور میں فاسق، جھوٹا، اس پر اللہ کی لعنت وغیرہ وعیدوں سے ڈرایا اور خبردار کیا گیا ہے۔ اور مردوں کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ عورت بھی خدا کی ایک معزز مخلوق ہے۔ اس کو حقیر اور ذلیل مت جانو، اس کو بچ سمجھ کر اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنا ترک کر دو، اس کی عزت و آبرو کی نگہبانی کرو، اس کے دامن عصمت کو تہمت والزام سے داغدار کرنے سے باز رہو۔ ورنہ اسی ۵۰ کوڑے، مردود الشہادۃ، فاسق، جھوٹے، اور اللہ کی لعنت کے حقدار جیسی سزائیں بھگتنے کیلئے تیار رہو۔ یہی اسلامی تہذیب ہے۔ اس کے دائرے میں رہو اور یہ حکم قیامت تک جاری رہے گا۔

اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت حضور اقدس ﷺ اپنی طرف سے فوراً فرمادیتے اور وحی کا انتظار نہ فرماتے تو:-

● کیا سورہ نور کی دولت سے ہم سرفراز ہوتے؟

● کیا اس میں معاشرے کے نظام کی درستگی کے جوا حکامات ہیں وہ ہمیں

نصیب ہوتے؟

● عورتوں کی عزت و آبرو کی پاسداری اور پاسبانی کی تعلیم ہم کو حاصل ہوتی؟

● عورتوں کی عصمت اور پاکدامنی کی تاقیامت جو حفاظت کی گئی ہے وہ کیا

حاصل ہوتی؟

● تہمت والزام تراشی جیسے قبیح و مذموم طور و اطوار کے ترک کرنے کا حوصلہ

ملتا؟

● کیا یہ اخلاقی محاسن دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچتے؟

ان تمام احکامات و وجوہات کی بنا پر عالم ماکان و مایکون، علم غیب جاننے

والے، ہر بات سے باخبر، پیارے رسول اللہ ﷺ نے توقف فرما کر سکوت فرمایا۔

اس حکمت عملی کو سمجھنے سے قاصد و عاجز، کورچشم و کور باطن دور حاضر کے منافقین نے

سکوت مصطفیٰ ﷺ سے غلط استدلال حاصل کر کے یہ واویلا مچا رکھا ہے کہ معاذ اللہ

آپ ﷺ کو علم غیب نہیں تھا۔

برأت عائشہ میں تاخیر کی حکمت

دور حاضر کے منافقین ایک شور یہ بھی مچاتے ہیں کہ برأت حضرت عائشہ

صدیقہ کے معاملے میں حضور نے عجلت کیوں نہ فرمائی۔ اور اتنی تاخیر کیوں کی؟ اب

اسی سوال کو ہم دور حاضر کے منافقین کی جانب لوٹاتے ہیں کہ برأت حضرت عائشہ

کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کے نزول میں تاخیر کیوں فرمائی؟ ہے کوئی

آپ کے پاس اس کا جواب؟ لیکن مجہد تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے پاس اس کا

شافی و دوانی و کافی جواب ہے۔ نزول آیات قرآن کی تاخیر میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔

ایک یہ کہ اگر کوئی معاملہ پیش آئے اور فوراً اس کا تدارک کر دیا جائے تو اس معاملہ کی

اتنی اہمیت نہیں رہتی۔ فی الفور رفع دفع ہو جانے والا معاملہ صرف کچھ دنوں تک عوام

الناس میں زیر بحث اور موضوع سخن رہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ اسے فراموش

کر دیتے ہیں۔ اور اس کے اثرات تا دیر قائم نہیں رہتے اور نہ ہی اس واقعہ کی سنگینی کا

احساس ہوتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ فی الفور حل شدہ معاملے میں لوگوں کے

نظریات و تخیلات بھی کامل طور سے رونما نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگوں کے تفکرات

اندر ہی اندر دب کر رہ جاتے ہیں۔ ان کو اظہار کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ایسی

صورت میں لوگوں کے ذاتی رویے کا پتہ نہیں لگتا کہ جناب عالی کس جانب ہیں؟

موافقین میں سے ہیں یا مخالفین کی گروہ میں شامل ہیں تاکہ تمیز ہو سکے کہ یہ اپنا ہے یا

پرایا؟

حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی تہمت کا معاملہ کوئی

معمولی حادثہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم ﷺ کی زوجہ محترمہ کی عصمت کا معاملہ

تھا۔ اور در پردہ قیامت تک آنے والی تمام خواتین کی عزت و آبرو کا معاملہ تھا۔ تہمت کا تعلق کردار سے تھا، پاک دامن سے تھا، ایک عورت کے لئے اپنی عصمت سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی۔ ایک عورت اپنی عصمت کے تحفظ کیلئے دنیا کا سارا عیش و آرام قربان کرنے کیلئے ہمہ وقت مستعد ہوتی ہے۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی تہمت کا معاملہ حضور اقدس ﷺ فوراً رفع دفع فرمادیتے، تو اس سے معاملہ کی اہمیت اور سنگینی کا احساس نہ ہوتا۔ آئے دن ایسے اتہامات کا اعادہ اور سلسلہ جاری رہتا۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ ہی نہیں بلکہ اور بھی پاک دامن خواتین کے دامن عصمت جھوٹی تہمتوں سے داغدار ہوتے رہتے۔ اور اس کا دائمی طور پر کوئی تذکرہ نہ ہوتا۔ حضور اقدس ﷺ نے معاشرے سے اس قسم کے رذیل افعال کو نیست و نابود فرمانے میں جو کردار ادا فرمایا ہے، وہ پوری دنیا کے لئے ضرب المثل ہے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ الزام تراشی کی عادت قبیحہ کو اس طرح ختم کیا جائے اور ایسے اقدام کئے جائیں کہ کوئی بھی شخص کسی پاک دامن عورت کی عصمت پر تہمت لگانے سے پہلے اس کے انجام سے باخبر اور خوفزدہ ہو کر اس کے ارتکاب سے تھر تھر کانپے۔

آج تو میری زوجہ محترمہ کی عصمت کو نشانہ بنایا گیا ہے، کل کسی اور پاک دامن خاتون کی ردائے عصمت کو خنجر تہمت سے پاش پاش کیا جائے گا۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سبب بنا کر عصمت انسا کے تحفظ کے دائمی اور مستقل

اقدام اٹھائے جائیں۔ اسی لئے اس معاملہ کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی اور اہمیت دینے کیلئے ہی اس معاملہ کو اتنا طول دیا گیا۔ طول دینے سے اہم امر یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ سماج کے سب لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں اور سب لوگوں کی آراء و نظریات معلوم ہو جاتے ہیں تاکہ کل اٹھ کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اس معاملہ کی اطلاع ہی نہ ہوئی، ورنہ میں اپنی رائے اس طرح پیش کرتا۔ تو جب سماج کے سب لوگ اس سے واقف ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس معاملے کا حل اور فیصلہ ہوتا ہے تو پھر کسی کو غیر مطمئن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ان سینہ امور کے حصول کے لئے معاملے کو طول دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص بعد میں اپنی لاعلمی کا اظہار و بہانہ نہ کر سکے۔ لہذا اسی غرض و حکمت کی بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی جھوٹی تہمت کے معاملے کو ایک ماہ سے زیادہ مدت تک طول دیا گیا۔

کسی معاملے کو طول دینے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ اپنی وفاداری اور جانثاری کا دم بھرنے والے کا امتحان ہوتا ہے کہ عین وقت پر کون ثابت قدم رہتا ہے اور کس کے پائے استقلال میں تزلزل آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون غیر مخلص؟ بہت سے لوگ کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں۔ ان کے عزم و ارادے، فیصلے اور رائے میں اپنا کوئی نظریہ کار گر نہیں ہوتا۔ بلکہ

وہ دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ماحول کے پیش نظر جہاں جھکاؤں ہوتا ہے اسی طرف جھکتے ہیں۔ ناقص الرائے اور ناقص العقل ہونے کی وجہ سے وہ لوگ دوسروں کے فعل و ارتکاب کا اتباع کرتے ہیں۔ ذاتی طور پر کچھ فیصلہ کرنے سے وہ لوگ عاجز و قاصر رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں خود اعتمادی اور خود ارادیت Self Determination کا فقدان ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے ارادوں اور فیصلوں کے محتاج اور مرہون منت ہوتے ہیں۔ اور یہ خصلت اور عادت مذموم و ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ اس میں خوف و اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی حق و باطل کا فیصلہ کئے بغیر کسی کی دیکھا دیکھی میں غلط راہ اختیار کر کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا عام حالت میں پتہ نہیں لگتا بلکہ جب کبھی کوئی سنگین معاملہ ہوتا ہے، تب ان کی ذہنی بے مائیگی کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے لوگ ماحول سے متاثر ہو کر ہمیشہ چلتی گاڑی میں چڑھ جانے کی طامع ذہنیت رکھتے ہیں۔ بلکہ اپنے نفع اور لالچ کے حصول کی خوکی بناء پر اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ ان کو آنکھوں کی شرم بھی نہیں ہوتی، دوستی اور وفاداری کے تمام عہد و پیمان وہ لوگ فراموش کر جاتے ہیں۔ بتقاضہ دوستی و محبت مصیبت کے وقت مدد کرنا وہ بھول جاتے ہیں، مدد کرنا تو درکنار، اُلٹے وہ مخالفت کرنے والوں کے زمرے میں اپنی جائے نشست اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے جھوٹے مدعی دوستی اور سچے وفاداروں کا امتیاز مصیبت کے معاملے کے وقت ہی صحیح طور پر ہوتا ہے۔ عام حالات میں زبانی اقرار محبت و وفاداری تو سب کرتے ہیں لیکن جب موقع آتا ہے

تب عاشق صادق سایہ کی طرح ساتھ رہتا ہے اور دھوکے باز اڑ کر سامنے والے کنارے چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ظاہری رویے سے پتہ نہیں چلتا کہ جناب عالی کس فریق سے تعلق رکھتے ہیں؟ لیکن جب موقع آتا ہے تو ایسے لوگ اپنی محبت و عداوت کا اظہار کرنے میں ذرہ برابر کی بھی کاہلی نہیں کرتے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو ہم کیا سمجھتے تھے اور یہ کیا نکلے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی جھوٹی تہمت کے معاملے کو اتنی لمبی مدت تک طول دینے کے پس پردہ حکمت ایزدی یہی تھی کہ لوگوں کا امتحان اور آزمائش ہو جائے اور اس امتحان کے ذریعہ لوگوں کا امتیاز بھی ہو جائے۔ قارئین کو حیرت ہوگی کہ منافقین کی باتوں کے جال میں سادہ لوح اور بھولے بھالے مسلمان بھی پھنس گئے تھے اور ان کا شمار بھی اہل الکف یعنی تہمت لگانے والوں میں ہوتا ہے۔ بڑا ہی سنگین معاملہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان و آزمائش کا وقت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا ایسے موقع پر امتحان لیتا ہے۔ جب پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا امتحان لیا تھا۔ جس کی تفصیل اس آیت میں ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ
الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ۔ (پارہ ۲۔ سورہ بقرہ آیت ۱۴۳)

ترجمہ: اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے، ہم نے وہ اسی لئے مقرر کیا تھا

کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔

(کنز الایمان)

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور امتحان لیتا ہے اور جو امتحان میں ناکام ہوتے ہیں ان پر سزا و عتاب فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی تہمت کے معاملے میں اچھوں اچھوں کا امتحان ہو گیا۔ جو سادہ لوح اور بھولے بھالے مسلمان منافقین کے دام فریب میں آکر اہل افک میں شامل ہو گئے تھے، ان کو حد قذف کی سزا یعنی کہ اسی ۸۰ کوڑے لگوائے گئے۔

اس واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید میں آیت تیم نازل ہوئی جو قیامت تک کے مسلمانوں کیلئے راحت اور آسائش ہے۔

ایک کہادت ہے کہ ”خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے“ زمانہ اقدس ﷺ کے منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ پر جھوٹی تہمت لگا کر شہرت اور غلط پروپیگنڈوں کا بازار تو گرم کر دیا لیکن ان کی عقلوں پر بے وقوفی کے پردے پڑ گئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس شخص کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام جوڑ رہے تھے، وہ شخص یعنی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ سے ایسی حرکت کے صدور کا امکان ہی نہ تھا۔ کیونکہ حضرت صفوان ”نامرد“ تھے۔ امام قسطلانی شارح صحیح بخاری فرماتے ہیں کہ ”یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ گئی ہے کہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نامرد تھے۔ اور ان کا آلہ تناسل ناکارہ تھا۔ خود حضرت صفوان بن معطل

رضی اللہ عنہ نے اپنی نامردگی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں نے کسی عورت کا پردہ نہیں اٹھایا۔ مطلب یہ کہ میں نے کسی بھی عورت کے ساتھ جماع نہیں کیا۔

(حوالہ: مدارج النبوة، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اردو ترجمہ، جلد ۲، ص ۱۸۴)

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ زمانہ اقدس کے منافقین نے جو تہمت لگائی تھی اس میں کتنا دم تھا، زمانہ اقدس کے منافقین کی اتباع میں دور حاضر کے منافقین بھی ایسی بے وقوفی سے لبریز باتیں کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے برأت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی طرف سے نہ ظاہر کی بلکہ وحی آنے کے بعد اعلان برأت کیا۔ ان عقل کے اعمیٰ کو کیا نہیں معلوم کہ حضور اقدس جو کچھ فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے پر، وحی والہام ہونے پر ہی آپ کلام فرماتے تھے۔ کبھی آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کلام بصورت قرآن ہوتا تھا اور کبھی بصورت حدیث۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

(پارہ ۲۷، سورہ النجم، آیت ۳)

ترجمہ ”اور کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ وہ تو نہیں مگر جو وحی ان کو

(کنز الایمان)

کی جاتی ہے“

دور حاضر کے منافقین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی جھوٹی تہ - کے واقعہ کو آڑ بنا کر حضور اکرم ﷺ کے علم غیب کی نفی کی راہ نکالنے کی مصحکہ خیز باتیں کر کے خود مصحکہ خیز بنتے ہیں۔ عداوت و بغض نبی میں اپنے ذہنی اختراع کی بے تکی اور بے جا باتیں اپنی ناپاک زبان سے کہہ کر اپنی بے راہ روی کا ثبوت دیتے ہیں۔ حالانکہ حضور اقدس ﷺ کے علم غیب کے اثبات میں آیات قرآن، دفاتر احادیث اور اقوال ائمہ دین اتنی کثیر وافر تعداد میں شاہد و عادل ہیں کہ کئی ضخیم کتب مرتب ہو سکتی ہیں۔

امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا محقق بریلوی اس پورے واقعے کی عکاسی اپنے اس شعر میں یوں کرتے ہیں۔

یعنی ہے سورۃ نور جن کی گواہ
ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام

یعنی امام اہل سنت ام المومنین حضرت عائشہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ وہ ایسی پاک دامن اور عصمت و عفت مآب تھیں کہ ان محاسن کی وجہ سے ان کی صورت نورانی تھی ”ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام“ اور یہ حقیقت ہے کہ پاک دامن اور نیک کردار کے چہرے پر ہی نور ہوتا ہے۔ بد عقیدہ اور بد عمل کے چہرے پر نور نہیں ہوتا بلکہ سیاہی اور کالک ہوتی ہے۔ ان کا چہرہ دیکھنے میں بھی مکروہ محسوس ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہر سنی مسلمان کو انبیائے کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی سچی عظمت و محبت عطا فرمائے اور انبیائے کرام کی مقدس ازواج کی تعظیم و تکریم کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور ان کی جناب میں نازیبا و ناشائستہ الفاظ بولنے سے محفوظ و مامون رکھے۔

آمین۔ یا رب العالمین۔

و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و أزواجه و أصحابہ و أهل بیتہ أجمعین۔
آمین۔



پیغام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی

رحمۃ اللہ
علیہ

پیارے بھائیو! تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی
بھیڑیں ہو۔ بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں
بہکاویں، تمہیں فتنہ میں ڈال دیں، تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں،
ان سے بچو اور دور بھاگو۔

دیوبندی ہوئے، رافضی ہوئے، نیچری ہوئے، قادیانی
ہوئے، چکڑالوی ہوئے، غرض کتنے ہی فتنے ہوئے۔ ان سب سے نئے
گانڈھوی ہوئے۔ جنہوں نے ان سب کو اپنے اندر لے لیا۔ یہ سب
بھیڑیے ہیں۔ یہ سب تمہارے ایمان کی تاک میں ہیں، ان سب کے
حملوں سے اپنا ایمان بچاؤ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، رب العزت جل جلالہ کے نور
ہیں۔ حضور سے صحابہ روشن ہوئے، ان سے تابعین روشن ہوئے، تابعین
سے تبع تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم
روشن ہوئے۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں یہ نور ہم سے لے لو، ہمیں اس کی
ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو، وہ نور یہ ہے کہ اللہ و رسول کی سچی محبت
ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اور ان کے دشمنوں
سے سچی عداوت، جس سے خدا اور رسول کی شان میں ادنیٰ توہین پاؤ پھر وہ
تمہارا کیسا بی پیارا کیوں نہ ہو فوراً ہی اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ
رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو پھر وہ تمہارا کیسا بی بزرگ معظم کیوں نہ ہو
اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔

(وصایا شریف صفحہ 13 از مولانا حسنین رضا)

جمعیت اشاعت اہلسنت کی سرگرمیاں

مدارس حفظ و ناظرہ

جمعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

درس نظامی

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کے تحت رات کے اوقات میں ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی درس نظامی کی کلاسیں لگائی جاتی ہیں۔

دارالافتاء

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کے تحت مسلمانوں کے روزمرہ مسائل میں دینی رہنمائی کیلئے عرصہ پانچ سال سے دارالافتاء بھی قائم ہے۔

مفت سلسلہ اشاعت

جمعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتدر علمائے اہلسنت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقسیم کی جاتی ہیں۔ خواہش مند حضرات نور مسجد سے رابطہ کریں۔

ہفتہ واری اجتماع

جمعیت اشاعت اہلسنت کے زیر اہتمام نور مسجد کاندھلوی بازار میں ہر جمعہ کو 9:30 تا 10:30 ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس میں ہر ماہ کی چٹکی اور تیسری پیر کو درس قرآن ہوتا ہے جس میں حضرت علامہ عرفانی ضیائی صاحب درس قرآن دیتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی دو پیر مختلف علماء کرام خطاب کیلئے تشریف لاتے ہیں اور مختلف موضوعات پر خطاب فرماتے ہیں۔

کتب و کیسٹ لائبریری

جمعیت کے تحت ایک لائبریری بھی قائم ہے جس میں مختلف علمائے اہلسنت کی کتابیں مطالعہ کے لئے اور کیسٹیں سماعت کیلئے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ خواہش مند حضرات رابطہ فرمائیں۔